

P-29



نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو نہ کرنے یا کٹ کر نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that Question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Dropping the Handkerchief is a game of : Chasing (D) Dodge Ball (C) Circle (B) Dog Race (A)	رواں گرانا ایک کھیل ہے : (A) ڈاگ دوڑ کا (B) دائرے کا (C) جھانسدہ دینے کا (D) تعاقب کا	سوال نمبر 1 (1)
The Internal Diameter of throwing the Discus Circle is ——— meter : 2.60 (D) 2.50 (C) 2.40 (B) 2.30 (A)	تھالی پھینکنے کے دائرے کا اندرونی قطر ——— میٹر ہوتا ہے :	(2)
For a Good Player the Key to success is : Dutifulness (D) Discipline (C) Obedience (B) Self Confidence (A)	ایک اچھے کھلاڑی کے لیے کامیابی کی کنجی ہے : (A) خود اعتمادی (B) اطاعت (C) ڈسپلین (D) فرض شناسی	(3)
The meaning of Hiking is : Walking (B) Walking on Mountains (A) Picnic (D) To Entertain (C)	ہائیکنگ کے معنی ہیں : (A) پہاڑوں پر پیڈل سفر کرنا (B) پیڈل سفر کرنا (C) تفریح کرنا (D) پیکنک کرنا	(4)
The length of the Table Tennis Table is : 2.74 Meters (B) 1.74 Meters (A) 4.74 Meters (D) 3.74 Meters (C)	ٹینس میز کی لمبائی ہوتی ہے : (A) 1.74 میٹر (B) 2.74 میٹر (C) 3.74 میٹر (D) 4.74 میٹر	(5)
The Sources of Food are ——— : 06 (D) 04 (C) 02 (B) 03 (A)	غذا کے حصول کے ذرائع ——— ہیں :	(6)
The Wind Pressure on the tops of Mountains is ——— : Zero (D) Normal (C) More (B) Less (A)	ہوا کا دباؤ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ——— ہوتا ہے : (A) کم (B) زیادہ (C) نارمل (D) صفر	(7)
A large quantity of ——— is found in Squash : Vitamin C (D) Vitamin B (C) Vitamin K (B) Vitamin D (A)	سکوائش میں کافی مقدار میں ——— پایا جاتا ہے : (A) وٹامن ڈی (B) وٹامن کے (C) وٹامن بی (D) وٹامن سی	(8)
(For Boys برائے طلباء)		
The Match of Hockey lasts for ——— minutes : 90 (D) 45 (C) 70 (B) 35 (A)	ہاکی کا میچ ——— منٹ کا ہوتا ہے :	(9)
If the Ball has to be change during the Hockey Match, the game will start again by ——— : Bulley (D) Corner Hit (C) Free Hit (B) Center Pass (A)	ہاکی کے کھیل کے دوران اگر بال تبدیل کرنا پڑ جائے تو کھیل کا دوبارہ آغاز ——— سے ہوگا :	(10)
The width of the Runway in the Long Jump is ——— meter : : 1.52 (D) 1.42 (C) 1.32 (B) 1.22 (A)	لمبی چھلانگ میں دوڑنے کے راستے کی چوڑائی ——— میٹر ہوتی ہے :	(11)
The weight of Discus for men is : 5 Kg (D) 2 Kg (C) 4 Kg (B) 1 Kg (A)	ڈسکس کا وزن مردوں کے لیے ہوتا ہے : (A) 1 کلوگرام (B) 4 کلوگرام (C) 2 کلوگرام (D) 5 کلوگرام	(12)
(For Girls برائے طالبات)		
The height of Table Tennis table is : 75 Cm (D) 76 Cm (C) 77 Cm (B) 78 Cm (A)	ٹینس میز کی اونچائی ہوتی ہے : (A) 78 سم (B) 77 سم (C) 76 سم (D) 75 سم	(9)
The weight of Discus for women is : 3 Kg (D) 2 Kg (C) 0.5 Kg (B) 1 Kg (A)	تھالی کا وزن عورتوں کے لیے ہوتا ہے : (A) 1 کلوگرام (B) 0.5 کلوگرام (C) 2 کلوگرام (D) 3 کلوگرام	(10)
A Table Tennis Game contains of ——— points : 11 (D) 13 (C) 15 (B) 17 (A)	ٹینس میز کی ایک گیم ——— پوائنٹس پر مشتمل ہوتی ہے :	(11)
The ways to hold the Discus are ——— : 04 (D) 03 (C) 02 (B) 01 (A)	ڈسکس پکڑنے کے ——— طریقے ہیں :	(12)

B

ہدایات ﴿ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 ، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے کوئی سے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کیجئے۔
جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جڑ نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: It is compulsory to attempt any (5-5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part Number as given in the Question Paper.

30 = 2 x 15

حصہ اول - 22

(Part I) حصہ اول

- سوال نمبر 2 (i) تفریحی اور چھوٹے رقبے کے کھیلوں کی دو خوبیاں بیان کیجئے۔
Describe the two advantages of Recreational and Small Area Games.
- (ii) دائرے کا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے؟
How Circle Game is play?
- (iii) فزیکل فٹنس کے دو پہلو تحریر کیجئے۔
Write the two aspects of Physical Fitness.
- (iv) انسان کی چار بنیادی ضروریات کے نام لکھیے۔
Write the names of four Basic Needs of Human.
- (v) قامت کی تعریف کیجئے۔
Define Posture.
- (vi) ٹورنامنٹس میں ٹیبل ٹینس کا میچ عموماً کتنی گیمز پر مشتمل ہوتا ہے؟
How many Games does a Table Tennis Match in Tournaments usually consist of?
- (vii) ایک اچھے کھلاڑی کے دو اوصاف بیان کیجئے۔
Describe two Attributes of a Good Player.
- (viii) گول کمر کی دو اصلاحی ورزشیں تحریر کیجئے۔
Write two Remedial Exercises of Kyphosis.
- سوال نمبر 3 (i) ہاکی کے گراؤنڈ کی لمبائی اور چوڑائی تحریر کیجئے۔
Write the Length and Width of Hockey Ground.
- (ii) ٹیبل ٹینس کی گیند پر مختصر نوٹ لکھیے۔
Write a short note on Table Tennis Ball.
- (iii) ہاکی کے کھیل میں بلی سے کیا مراد ہے؟
What is meant by Bulley in Hockey Game?
- (iv) لمبی چھلانگ میں اکھاڑے کی لمبائی اور چوڑائی تحریر کیجئے۔
Write the Length and Breadth of landing area in Long Jump.
- (v) لمبی چھلانگ میں کھلاڑی کی دو ناکامیاں تحریر کیجئے۔
Write two failures of the Athlete in Long Jump.
- (vi) ٹیبل ٹینس کی دو مہارتوں کے نام تحریر کیجئے۔
Write the names of two Skills of Table Tennis.
- (vii) (4 x 100) میٹر ریس کے دو فاؤنڈر بیان کیجئے۔
Describe two Fouls of (4 x 100) meter Race.
- (viii) (4 x 100) میٹر کی دوڑ میں بیٹین کی تبدیلی کے علاقے کی وضاحت کیجئے۔
Explain the Baton Change area in (4 x 100) meter Race.
- سوال نمبر 4 (i) طلباء کا ایک سال میں کتنی بار طبی معائنہ کرانا ضروری ہے؟
How many times in a year Students must be medically examined?
- (ii) تفریح کی تعریف کیجئے۔
Define Recreation.
- (iii) متعدی امراض سے بچاؤ کی دو حفاظتی تدابیر بیان کیجئے۔
Describe two precautions against Infectious Diseases.
- (iv) بین الاقوامی ادارہ صحت کے مطابق ایک معیاری آبادی کی تعریف تحریر کیجئے۔
Define a Standard Population according to World Health Organization.
- (v) کیمپنگ کی اہمیت بیان کیجئے۔
Describe the importance of Camping.
- (vi) الکھلی مشروبات کے دو نقصانات بیان کیجئے۔
Describe two disadvantages of Alcoholic Beverages.
- (vii) متوازن غذا کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے؟
How is the Balanced Diet determined?
- (viii) کافی کے دو نقصانات لکھیے۔
Write the two disadvantages of Coffee.

حصہ دوم (Part II)

18 = 9 x 2

- سوال نمبر 5 متوازن غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کے اجزاء پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔
(9) What is Balanced Diet? Write a detailed note on its Constituents.
- سوال نمبر 6 ریلے ریس میں بیٹین کی تبدیلی کے طریقوں کی وضاحت کیجئے۔
(9) Explain the Techniques of Changing the Baton in Relay Race.
- سوال نمبر 7 ہوا کو صاف کرنے کے قدرتی ذرائع تفصیلاً بیان کیجئے۔
(9) Describe the Natural Sources of Air Purification in detail.
- سوال نمبر 8 لمبی چھلانگ کے قوانین تحریر کیجئے۔
(9) Write the Rules of Long Jump.

B

18-04-2022